ایک ایسی کتاب
جو سینکڑوں سالوں
سے پوشیدہ تھی

گنجینۂ طلسمات



دنیائے طلسمات کے عجائبات

511 گنجینہ

طلسمات

دیوی دیال گپتا: باوا دیال

www.freeamliyaatbooks.com
فری عملیات بکس
FREE AMLIYAAT BOOKS

ہر قسم کی بکس وی پی منگوانے کیلئے اس پتہ پر خط لکھیں، فون کریں اور ایس ایم ایس کریں شکریہ

عثمان پبلی کیشنز

عثمان پبلی کیشنز، ملک جلال دین ہسپتال، چوک اردو بازار، لاہور

دکان بند ہونے کی صورت میں نیچے والے پتہ پر تشریف لائیں

عثمان پبلی کیشنز، مچھلی منڈی نزد اردو بازار، لاہور

Email: upublications@yahoo.com upublications@gmail.com
0333-4275783 - 042-37640094 - 0333-4096572

جملہ حقوق محفوظ

محمد عثمان نے ریاض شہباز پرنٹنگ پریس لاہور
سے چھپوا کر عثمان پبلی کیشنز سے شائع کی۔

مصنف کی آراء سے ادارہ (پبلشرز) کا متفق ہونا ضروری نہیں۔

ڈیزائنگ وکمپوزنگ: کمائن گرافکس 0300-8466944

ہر قسم کا پرنٹنگ کا کام ہم سے کروائیں: ہم رسالے، میگزین، بکس مکمل تیار کر کے جلد بندی کروا کر دیتے ہیں۔ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ عثمان پرنٹنگ ایجنسی اب ہر معلومات آپ سے ایک فون کال کے فاصلے پر۔
0333-4275783 - 042-37640094 - 0333-4096572

عثمان پبلی کیشنز

ہر قسم کی بکس کیلئے یا وی پی بکس منگوانے کیلئے اس درج ذیل ایڈریس پر رابطہ کریں

پہلے یہاں تشریف لائیں:
عثمان پبلی کیشنز، ملک جلال دین ہسپتال، چوک اردو بازار، لاہور
دکان بند ہونے کی صورت میں نیچے والے پتہ پر تشریف لائیں
عثمان پبلی کیشنز، مچھلی منڈی، نزد اردو بازار، لاہور
Email: upublications@yahoo.com
upublications@gmail.com

پیش لفظ 1
نام انگشت ہائے و تاریخ
و زکات حروف تہجی 2
نچھتروں کے نام 3
روزانہ نچھتر معلوم کرنیکا قاعدہ 3
مہورت و یوگ برائے سعد ہر کام 3
حروف تہجی کا زکات 4
وہ تاریخیں جن میں عمل
نہیں شروع کرنا چاہیے 4
برائے وقار و عزت 5
برائے ترقی عزت و مرتبہ 6
برائے بلندی مراتب 7
برائے ترقی کاروبار 9
در بیان تنتر و دیا 10
برائے ہر دلعزیز 10
برائے محبت 14
در بیان جنتر و دیا 17
برائے محبت 17
برائے محبت 23
برائے بلندی مرتبہ 25
برائے تکلیف دشمن 26
در بیان منتر و دیا 27
برائے محبت 27
برائے تکلیف 27
در بیان خرابی و مغلوبی
دشمنان و عداوت در محبان 30
برائے خرابی دشمنان 30
برائے مغلوبی دشمنان 31
برائے عداوت محبان 32
برائے مخالفت و دشمنی 32
برائے عداوت 33
در بیان محفوظ شدن از زخم
شمشیر و جادو و نیز از نظر
بد و گزندہ جانوران صحرائی وغیرہ 35
برائے نظر بد 35
برائے حفاظت گزندہ جانوراں 35
در بیان حفاظت زر و مال
حصول مقاصد و فتح یابی ہر دشمنان
و دفعیہ امراض وبائی وغیرہ 36
برائے فتح یابی ہر دشمنان 36
برائے حفاظت زر و مال 37
برائے حصول مقاصد 39
برائے حصول مقاصد و عزیز خلائق 40
برائے دفعہ امراض وبائی 41
برائے امراض سوداوی
و فساد خون و تپ لرزہ 42
برائے حصول مقاصد 43
در بیان متفرقات عمل 43

بیمار پر صدقہ 43
برائے شفا امراض 44
برائے بخار روزمرہ 44
برائے بخار تیا و چوتھیا 45
برائے بخار چوتھیا 46
برائے آسانی ولادت 47
نیند نہ آئے 47
نیند آجائے 47
برائے رفع گریہ اطفال 48
برائے خوف 48
برائے ماندگی سفر 49
برائے آرام شدن زخم شمشیر 49
برائے رفع تنگدستی 50
برائے قوت مردانگی 50
برائے غالب شدن بر مستورات 50
برائے نیک اخلاقی 50
برائے دریافت حاصل 51
دن میں تارے دکھنا 51
مچھلیوں کا جال میں نہ آنا 51
خراب ہونا آوے کا 52
مویشیاں دودھ کم دیں 52
برائی لڑائی و جھگڑا 52
برائے اچاٹن 53
برائے اچاٹن والڑائی 53
برائے فراری مار 54
برائے اطاعت مخلوق 55
برائے مستجاب الدعوات 56
برائے درستی حافظہ و تمنائے دل 57
برائے بسیار شدن محبت والفت 58
برائے حافظہ و قوت و صحت جسمانی 59
قدرتی خاصیتیں در جسم انسان 61
عورت 63
حیوانات اور ان کے اوصاف تاثیرات حیوانات 65
گھوڑا 65
ہاتھی 66
اونٹ 67
گدھا 68
مچھر 68
بکری 69
بھیڑ 70
سگ یعنی کتا 70
گربہ یعنی بلی 71
شیر 72
گرگ یعنی بھیڑیا 73
ریچھ 74
شغال یعنی گیدڑ 75
گوزن یعنی بارہ سنگا 75

آہو یعنی ہرن 76
خرگوش 76
نیولا 77
جنگلی چوہا……سیہ 78
لنگور 78
کفتار 79
مرغ 80
طاؤس یعنی مور 81
کبوتر 82
ہدہد 82
کنجشک یعنی چڑیا 84
زاغ یعنی کوا 84
چیل 85
چمگادڑ 85
الو 86
باز 87
ابابیل 87
بلخ 88
مینڈک 89
عقرب یعنی بچھو 90.
ٹڈی 91
سراطین یعنی کیچوا 92
مردوں کیلئے الفت ومحبت پیدا کرنے والے بے نظیر تنتر 93
عورتوں کیلئے موہنی تنتر 106
ولادت میں آسانی 109
حفاظت طفلان شیر 111
دشمنوں کو مغلوب کرنے کے تنتر 112
دو محبوں کے درمیان دشمنی کرانے والے تنتر 113
دشمن کو بیمار کرنا 115
اچاٹن کے تنتر 117
عجیب وغریب پرتاثیر تنتر 119
تسخیر عالم 130
درندوں کو مطیع کرنا 133
کوئی کتا نہ بھونکے 134
متفرق عملیات 134
دو دشمنوں میں دوستی 134
دو اشخاص میں عشق ہو جائے 135
دو دشمنوں کے درمیان دوستی 135
لوگ بچے کو پیار کریں 135
پریاں مسخر ہو جائیں 136
عملیات بغض 136
دو دوستوں کے درمیان عداوت پیدا کرنا 136
دشمن کی نیند باندھنا 138
دشمن کے گھر تفرقہ ڈالنا 139
دشمن کو مغلوب کرنا 140

دشمن کو تکلیف میں مبتلا کرنا 141
سحر زدہ کرنا 141
آدمی کو احمق و بیوقوف بنانا 141
آدمی کو پاگل بنانا 142
دشمن کے پھوڑے پھنسی نکلنا 142
آدمی کو گونگا بنا دینا 142
بیٹھا بیٹھا آدمی تڑپنے لگے 142
آدمی دن رات ڈرنے لگے 143
اندھا کرنا 143
جوئیں پڑ جائیں 144
دشمن کا گھر ویران کرنا 144
دشمن کو بیمار کرنا 144
دشمن کو بعارضہ سودا مبتلا کرنا 145
دشمن حیران و پریشان ہو 145
دشمن اپنی جورو کو طلاق دیدے 145

حیوانات وحشرات الارض سے حفاظت کیلئے

درندوں سے محفوظ رہنا 146
بچھو نہ کاٹ سکے 146
عمر بھر زہریلے جانور سے محفوظ رہنا 147
زہریلے جانوروں سے بچے رہنا 147
پسوؤں سے محفوظ رہنا 147
گھر میں مچھر نہ گھسیں 147
پروانہ چراغ کے نزدیک نہ آئے 148
کیڑے سے بچاؤ ہے 148
ٹڈی دل سے محفوظ رہے 148
مکان میں چوہے داخل نہ ہوں 149
حیران کن شعبدات 149
آگ کا گھر 149
سورج کا گھر 150
موت اور دہشت کا گھر 151
جنوں کا گھر 151
چراغ جس کے جلانے سے آدمی ایک دوسرے کو فرشتہ صورت نظر آئیں 152
چراغ جس کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے کو حبشی کی شکل میں نظر آئیں 153
بتی جس کے جلانے سے حاضرین کو ایک دوسرے کی شکلیں مکروہ اور گھناؤنی نظر آئیں 153
بتی جسکی روشنی میں بہت سے سانپ نظر آئیں 154
بتی کے جلانے سے کمرے میں بچھو نظر آئیں 154
بتی جس کے جلانے سے کمرہ میں سبز پرندے وغیرہ نظر آئیں 155

بتی جس کے جلانے سے عورتیں ناچنے لگیں 155
حاضرین ایک دوسرے کو ٹیڑھی گردنوں اور جھکے ہوئے سروں سے دکھائی دیں 156
حاضرین گدھے کی شکل میں نظر آئیں 156
حاضرین کو ایک دوسرے کے کان گدھے کے کانوں کی طرح دکھائی دیں 157
حاضرین کو ایک دوسرے کے چہرے زرد دکھائی دیں 157
حاضرین کو ایک دوسرے کے چہرے کتے کے مشابہ دکھائی دیں 157
گھر پانی سے بھرا ہوا دکھائی دے 158
بتی جس کی روشنی میں ہر چیز سبز دکھائی دے 158
بتی جس کی روشنی میں حاضرین ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں 159
دھونی جس کے کرنے سے؟ سے درخت جھک جائے 160
حاضرین کو ایک دوسرے کے قد بڑے جسم دکھائی دیں 160
سبز رنگ کی عجیب و غریب شکلیں نظر آئیں 161
سمندر اور مگرمچھ ظاہر ہو 161
جن بلانا 162
منزل عورت 163
اندھیرے میں سب کچھ دیکھنا 163
عجیب و غریب سرمے 163
سرمہ جس کے لگانے سے روحیں نظر آئیں 163
سرمہ جس کے لگانے سے جن دکھائی دیں 165
سرمہ جس کے لگانے سے خزانے نظر آئیں 165
سرمہ جس کے لگانے سے عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں 166
سرمہ جس کے لگانے سے دفینہ اور احوال غائب معلوم ہوں 166
گھر کی آگ بجھانا 166
عجیب و غریب روشنیاں 167
لکھا ہوا انڈے کی سفید پر ظاہر ہو 167
لکھا ہوا اسلور معلوم ہو 167
لکھا ہوا صرف آگ سے گرم کرنے پر دکھائی دے 168
عجیب آئینہ 168
شمع کا سرد کر دینا 168
ہاتھ آگ میں نہ جلے 169

بھڑ کو مارنا اور پھر زندہ کرنا 169
لکھا ہوا صرف پانی میں
ڈالنے سے پڑھا جائے 170
لکھا ہوا صرف رات
کے اندھیرے میں پڑھا جائے 170
لکھے ہوئے کی جگہ
بال اگ آئیں 171
لکھا ہوا صرف پانی پر کھڑے
ہو کر پڑھا جائے 171
لکھا ہوا پتھر پر ظاہر ہو 171
لکھا ہوا دھوپ میں نمایاں ہو 172
لکھا ہوا پانی کے چھینٹے دینے
سے سفید ظاہر ہو 172
فریب زدہ روشنائی 172
حروف آگ دکھانے
سے سبز ظاہر ہوں 173
چراگاہ میں گائے نہ آئے 173
مکھیوں کو آواز دے کر جمع کرنا 173
تمام مکان سرخ معلوم ہو 173
بچھو پکڑنا 174
دھواں لگنے سے کانچ [illegible]
ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے 174
سرکہ دیکھتے دیکھتے
شراب بن جائے 174
شراب دیکھتے ہی دیکھتے
سرکہ بن جائے 175
کبوتر کو بھگانا 175
مجلس میں شور و غوغا برپا کرنا 175
منہ میں آگ جلانا 175
کینچوے پیدا کرنا 176
گھوڑ النگڑانے لگے 176
سرکہ میٹھا ہو جائے 176
مردہ مکھی زندہ ہو جائے 177
چراغ کی روشنی میں جو آئے
بغیر سر دکھائی دے 177
مینڈک کا بولنا بند کر دیں 177
بغیر آگ کے گوشت
کی ہانڈی پکے 177
کپڑا آگ میں نہ جلے 178
کتا ناچنے لگا 178
ہانڈی کا جوش بند ہو جائے 178
کچے دھاگے سے سخت ہڈی کاٹنا 178
جو سوکھے رونے لگے 179
برتن میں سے آواز آئے 179
بے جان بچھڑا بولے 179
کپڑا آگ میں نہ جلے 180
بکی ہوئی مچھلی تھالی میں اچھلے 180
بھنا ہوا پرندہ تھالی میں آواز دے 180

ذائقہ دور ہو 181
گدھے کو بے ہوش کرنا 181
لوگ خوامخواہ ہنسیں 181
پانی دیکھتے دیکھتے فالودہ بن جائے 182
سونا: چاندی بن جائے 182
خشک پھول تازہ کرنا 182
منہ میں کافور جلانا 183
منہ میں آگ رکھنا 183
منہ سے آگ کے شعلے نکالنا 183
طلسمی سانپ 184
پانی میں آگ جلے 184
چراغ آندھی میں بھی جلتا ہے 184
فوراً درخت اگانا 185
پھولوں کا رنگ تبدیل کرنا 185
چھلے کا ناچ 185
پانی خون بنجائے 186
کاغذ سے تحریر مٹانا 186
بغیر آگ جوار بھوننا 186
جادو کا نشانہ 187
انڈے کو بوتل میں ڈالنا 187
دو مرغ لڑائی میں جدا نہ ہوں 187
چور پکڑنا 188
کپڑا نہ جلے 188
کپڑے سے شعلے نمودار ہوں 189
کپڑا سادہ پانی ڈالنے
سے رنگ بدلے 189
دو رنگ کا کپڑا 190
ہتھیلی پر سرسوں جمانا 190
پیٹ میں اناج بوئے 191
چھلنی میں سے پانی نہ گرے 191
کپڑا پانی میں ہرگز تر نہ ہوگا 191
بجھا ہوا چراغ روشن ہوگا 192
پھول ظاہر ہوتے ہیں 192
روشنی میں سانپ نظر آئیں 192
چراغ کی روشنی میں برہنہ ہو 192
چراغ کی روشنی میں
آئینہ اور ستارہ چمکے گا 193
عمل خود غائب ہونے کا 193
عمل ازار بند توڑ دے 193
عمل زیادہ کھانا کھانے کا 194
پانی میں چراغ جلتا رہے 194
انگلی لگانے سے انگلی نظر نہ آئے 194
چھوں پر ڈالنے سے
مثل چراغ روشن رہیگا 195
سرسوں سبز ہو جائے گی 195
درخت آم پیدا ہوگا 195
بغیر چراغ کے روشنی ہوگی 196
جسم پر طلا کرنے سے دوسروں کو

بڑھا معلوم ہو 196
عمل نظر باندھنے کا 196
کبوتر کا پر رکھنے سے
کبوتر دکھائی دے 197
مکان وغیرہ سب
چیزیں سبز معلوم ہوں 197
جہاں چلا جائے دہشت نہ ہو 197
پانی میں نہ ڈوبے 197
جو دیکھے وہی مطیع ہو 198
پستان غائب ہوں 198
طلسمی آئینہ 198
انڈے کا عجیب کرتب 199
پیاسا انڈا 199
شعبدات 199
دو چراغوں کے شعلے
آپس میں لڑیں 199
بارش میں ہوا میں چراغ جلے 200
تمام گھر میں بچھو نظر آئیں 200
سبزی کو اچھالنے کی ترکیب 200
دو برتن آپس میں لڑیں 201
دن میں ستارے دکھائی دیں 201
گھر پانی سے بھرا نظر آئے 201

فری عملیات بکس
FREE AMLIYAAT BOOK'S
خوش جیوے سرفراز شاہ وچ مانچسٹر

پیش لفظ

یوں تو آج کل دنیا کے اندر بیشمار جادو کے نام سے موسوم علم موجود ہیں جن میں سے ایک طلسم بھی ہے جس سے انسان جنات وشیطان کی ارواح خبیثہ کو مسخر کر کے ان سے ناجائز طور پر کام لیتا ہے۔ لوگوں میں فتنہ فساد گھروں اور انسانی جسموں اور عزیز واقارب میں ناچاقیاں، انسانی بیماریوں کو ختم کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔

طلسم کے لفظی معنی امر مخفی پوشیدہ چیز کے ہوتے ہیں۔ جبکہ عملی اصطلاح میں طلسم سے مراد حیرت انگیز امور خفیہ ہیں جن کے وجود میں آنے کے ظاہری اسباب موجود نہ ہوں اور ان کے ظاہر ہونے میں کوئی پوشیدہ امر مخفی ہو۔ طلسم ایک بند چیز کا نام ہے جب یہ بند چیز کھل کر سامنے آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس میں سوائے الٹا نقصان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اس میں ذلت رسوائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔

خوش جیوے سرفراز شاہ وچ مانچسٹر

نام انگشت ہائے وتاریخ وزکات حروف تہجی

انگلیوں کے نام عربی زبان میں


خنصر
بنصر
وسطیٰ
سبابہ
ابہام
شبیہ
دست راست

خوش رہو سرفراز شاہ وچ مانچسٹر

پچھتروں کے نام:

اشنی، بھرنی، کرتکا، روہنی، مرگشر، آردرا، پنربس، پکھ، اشلیکھا، مکھا، پورباپھالگنی، اترا پھالگنی، ہست، چترا، سواتی، بساکھا، انرادہا، جیشٹھا، مولا، پورباکھاد، اترکھاد، شرون، دھنشٹا، ست بکھا، پورباپھادرپد، اترپھادرپد، ریوتی

روزانہ پچھتر معلوم کرنیکا قاعدہ:

روزانہ پچھتر معلوم کرنے کیلئے ابتدائی کاتک سے ماہ مطلوبہ کے گزشتہ مہینے تک شمار کریں۔ جس قدر شمار میں آئیں ان کو دوتا کریں اور وقت مطلوبہ کی جو تتھ ہو اس کو اس میں شامل کرلیں۔ پس اگر مجموعہ سینتیس (۳۷) سے زیادہ ہو۔ تو سینتیس (۳۷) کی طرح دیں ورنہ بالترتیب اگر کرشن پکھ ہو تو اشنی پچھتر سے شمار کریں۔ اگر شکل پکھ ہو تو سواتی پچھتر سے شمار کریں۔ جس پچھتر پر اعداد ختم ہوں وہی پچھتر اسروز ہوگا۔

مہورت ریوگ برائے سعد ہر کام:

جس پچھتر پر سورج ہو اس پچھتر سے وقت مطلوب کے چندرماں کا پچھتر شمار میں ۳ یا ۶ یا ۹ یا ۱۰ یا ۱۳ یا ۲۰ ہو تو ریوگ ہوتا ہے۔ تمام دوشوں کو دفع کرتا ہے اگر کسی مہورت میں نہیں ہو اور اس وقت یہ یوگ بن جائے تو بلا اندیشہ اس کام کو کرتا یوگ ہے۔

نام بروج عربی	حمل	ثور	جوزا	سرطان	اسد	سنبلہ	میزان	عقرب	قوس	جدی	دلو	حوت
نام ہندی	میکھ	برکھ	متھن	کرک	سنگھ	کنیا	تلا	برچھک	دھن	مکر	کمبھ	مین

نام سیارہ عربی	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر
نام ہندی	سنیچر	برہسپت	منگل	سورج	شکر	بدھ	چندرماں

نام بروج ہندی	میکھ، برچھک	برکھ، تلا	متھن، کنیا	کرک	سنگھ	دھن، مین	مکر، کمبھ
مالک سیارہ	منگل	شکر	بدھ	چندرماں	سورج	برہسپت	سنیچر

FREE ILMIYAAT BOOKS
www.facebook.com/groups/freeilmiyaatbooks

حروف تہجی کا زکات:

حروف تہجی کی زکات کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر روز ایک حروف کو چار ہزار چار سو چالیس مرتبہ اٹھائیس دن بلاناغہ باموکل پڑھے۔

حروف تہجی باموکل......زکوۃ

یا اسرافیل بحق یا الف۔ یا جبرائیل یا باء۔ یا عزرائیل بحق یا تاء۔ یا میکائیل بحق یا ثاء۔ یا کلکائیل بحق یا جیم۔ یا سمنکفیل بحق یا حاء۔ یا ہمکائیل بحق یا خاء۔ یا دردائیل بحق یا دال۔ یا اہرائیل بحق یا ذال۔ یا اموکیل بحق یا ذاء۔ یا شرفائیل بحق یا راء۔ یا ہمواکیل بحق یا سین۔ یا ہمرائیل بحق یا شین۔ یا اہجمائیل بحق یا صاد۔ یا عطکائیل بحق یا ضاد۔ یا اسمائیل یا طاء۔ یا لموزائیل بحق یا ظاء۔ یا لومائیل بحق یا عین۔ یا لوخائیل بحق یا غین۔ یا سرحائیل بحق یا فاء۔ یا ہطرائیل بحق یا قاف۔ یا حروزائیل بحق یا کاف۔ یا طاطائیل بحق یا لام۔ یا روہائیل بحق یا میم۔ یا حرکائیل بحق یا نون۔ یا رقمائیل بحق یا واو۔ یا دردیائیل یا ہاء۔ یا سرکیطائیل بحق یا طا۔

وہ تاریخیں جن میں عمل نہیں شروع کرنا چاہیے:

۳_۱۳_۲۳_۸_۱۸_۲۸

ان تواریخ میں عمل شروع کرنا نہیں چاہیے بلکہ کوئی نیا کام بھی ان تاریخوں میں کرنا مناسب نہیں ہوتا۔

خوش جیوے سرفراز شاہ وچ مانچسٹر

گنجینہ طلسم نمبر:1

برائے وقار و عزت



اگر بروز سہ شنبہ یعنی منگل کو جبکہ قمر برج عقرب میں متصل مریخ کے ہو ایک ٹکڑا حجر شادنج کا لیکر اس پر صورت مرد برہنہ کی بنائے اس طور پر کہ داہنے ہاتھ کی طرف اس کے

ایک عورت پشت کی جانب بال لٹکائے ہوئے کھڑی ہو اور مرد اپنا ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے ہوئے اور وہ عورت پشت کی جانب دیکھتی ہو اور پیروں کے نیچے ان صورتوں کے یہ حروف (ح ح ح ح ح) لکھئے بعد ازاں اس نگینہ کو لوہے کی انگوٹھی پر نصب کر دے اور ایسے ہی وقت میں کہ جس میں یہ عمل کیا ہے اس کو پہنے۔ امرا کے نزدیک وقار و عزت زیادہ ہوگی۔ اور اذیت حشرات الارض سے محفوظ رہے گا۔ بشرطیکہ کسی کو قتل نہ کرے اور گوشت خام نہ کھائے اور سگ کو نہ ہلاک کرے اور آگ اپنے ہاتھ سے نہ بجھائے۔

…… ☆ ……

گنجینہ طلسم نمبر:2

برائے ترقی عزت و مرتبہ

جب بروز جمعہ کو قمر ثور یا میزان میں ہو اس وقت ایک نگینہ لاجورد لے کر اس پر عورت برہنہ اور مرد مریخ کی کہ اس کی گردن میں زنجیر حمائل ہو اور عورت کے پیچھے ایک لڑکا دوش پر شمشیر کو رکھے ہوئے کھڑا ہو اور ان کے قدموں کے نیچے یہ حروف (ح ح ح ح) لکھے اور اس نگینے کو تانبے کی انگشتری پر نصف کرائے اور نگینے کے نیچے قدرے برادہ مس و لوبان رکھے اور ہاتھ میں پہنے مقبول بارگاہ سلاطین ہوگا اور عزت و مرتبہ زیادہ ہو اور عورتیں اس کی طرف بہت میل کریں گی بشرطیکہ آب شور میں وہ آدمی سیاحت نہ کرے اور مچھلی نہ کھائے اور جس عورت کے بال سفید ہوں اس سے اپنا جسم مس نہ ہونے دے اور اُلو کو نہ مارے ورنہ اس کا اثر جاتا رہے گا اس کی حفاظت کرنا لازمی بات ہے اور اگر وہ آدمی اس انگشتری کو جمعہ کے روز پہن کر جو شے اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا دعا اس کی مستجاب ہوگی اور اگر اس انگشتری کو موم میں لکھ کر پانی میں ڈالے دے پس جس مرد اور عورت کو یہ پانی پلا دے تو درمیان ان کی الفت بہت پیدا ہوگی۔

فراز شاہ وچ مانچسٹر

www.freeamliyaatbooks.blogspot.com
FREE AMLIYAAT BOOK



عملیات
FREE AMLIYAT

……☆……

کنجینہ طلسم نمبر:3

برائے بلندی مراتب

اگر کوئی آدمی توسیع رزق اور بلندی مراتب اور امراء میں عزت پانا چاہے تو وہ

اس طلسم کو تیار کرے اور حسب بحیثیت اپنی فائدہ اٹھائے۔ تیار کرنے والے کو لازم ہے کہ بروز جمعرات کرنکا پچھتر میں جوانمردی کی تصویر اس طرح بنائے کہ وہ شیر پر سوار ہو اور اس کے ایک ہاتھ میں شمشیر اور دست چپ میں کمان چلہ چڑھاتے ہوئے ہو۔ بعد ازاں اس آدمی کے سر پر (۸۱۱) لکھ دیں اور کمان پر یہ کلمہ (ایضاً) اور شمشیر پر یہ کلمہ (طلعکو) اور شیر کے منہ کے سامنے (عوام طک ل) یہ حروف کندہ کردیں پس یہ طلسم تیار کر کے بروز اتوار آروزا پچھتر میں اپنے پاس رکھے۔ اگر کندہ کرنا مشکل ہو تو کاغذ سفید پر بنا کر اس کو چاندی کی انگشتری میں نصب کرا کر دست راست میں وہ انگشتری پہنے۔



فری عملیات بکس
FREE AMLIYAAT BOOKS

خوش جیوے سرفراز شاہ وچ مانچسٹر

……☆……

گنجینہ طلسم نمبر:4

برائے ترقی کاروبار



جو شخص اس طلسم کو مقررہ وقت پر تیار کرے گا اس کے بعد کاروبار میں ترقی ہوگی اور خدوخال کا فائدہ اٹھائے گا۔ مایوس امیدوں میں خاطر خواہ کامیابی ہوگی۔ پس بروز بدھ دار سوتی

پنجشنبہ میں طلوع آفتاب کے بعد ایک ہرن کی کھال کا ٹکڑا لیکر ایک تنہا مکان میں بخور خوشبودار روشن کر کے اس ٹکڑے پر مشک و زعفران سے ایک تصویر ہرن کی بنائے اور اس پر ایک مرد سوار ہوئے اور دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے ہوئے ہو اور بعدازاں اپنے نام کے اعداد نکال کر ان میں (۵۱۷) اعداد اسم مبارک شامل کر کے مجموعہ اعداد کو مرد کے سر پر لکھے اور مرد کی پیشانی پر حرف (ز ی ث) لکھدے اور دست راست میں اس مرد کے (۳۰۸) اور دست میں (۱۳۷) عدد لکھے اور بعدازاں اس ہرن کی پیشانی پر صرف (۲۷) عدد لکھ دے اور بعدازاں اس ٹکڑے تیار شدہ کو سات ۷ روز تک دھوپ میں مقابل آفتاب کے باحفاظت رکھے اور جس وقت آفتاب چھپ جائے فوراً اٹھا کر کسی برتن میں ڈال دے۔ پس سات روز کے بعد اس طلسم کو اپنے مکان کے صحن میں زیر زمین تانبے کا ٹکڑا رکھ کر گاڑ دے قدرت ایزدی سے کاروبار میں ترقی اور وسعت رزق ہر چہار طرف سے ہوگی اور اس مکان میں رہنے والے جملہ آفتاب سماوی سے محفوظ رہیں گے۔

……

گنجینہ طلسم نمبر:5

دربیان تنترودیا

برائے ہردلعزیز:

اگر کوئی چاہے کہ لوگ مجھ سے محبت اور مہربانی سے پیش آئیں۔ تو جانور گدھ اور سیاہ الو کی آنکھیں لے کر ان کو روغن شرشف میں خوب حل کر لے بعدازاں جس روز کہ پنجشنبہ اماوش کے روز ہو اس دن اس تیل کو چراغ جدید میں ڈال کر روشن کرے اور اس کی سیاہی لیکر مکھن میں ملا دے اور کاجل بنائے اور نیک ساعت میں اس کاجل کو جو کوئی اپنی آنکھوں میں ڈال کر جس کے پاس جائے گا وہ اس سے کمال محبت سے پیش آئے گا اور جو عورت اس کی طرف دیکھے وہ بھی مہربانی اور محبت سے پیش آئے گی۔

دیگر:

پکھ نچھتر میں بھنگرہ سیاہ اور گوکھر کی جڑ اور گوروچن ان سب کو ملا کر اور پیس کر گولیاں بنائیں اور رکھیں جب کسی محفل یا کسی جابر کے سامنے جائے تو گولی مذکور کو رگڑ کر اپنی پیشانی پر تلک لگائیں تو سب محبت اور مہربانی سے پیش آئیں۔ مگر پکھ نچھتر بروز اماوش ہو۔

دیگر:

پکھ نچھتر بروز اماوش میں دھتورے سیاہ کی جڑ، ڈنڈی، پھل، پھول اور پتا یہ پانچوں اشیاء لیکر ہمراہ زیرہ سفید اور گوگل کو بھینس کے تازہ خون میں پیس کر ملا دے اور گولی

بنائیں۔ اس گولی کی دھونی جس عورت یا مرد کو دی جائے گی خواہ وہ کیسا ہی دشمن ہو وہ بھی محبت اور مہربانی سے پیش آئے گا اور اگر اس کی دھونی ایک جماعت یا محفل یا پنچایت وغیرہ میں کی جائے گی تو تمام آدمی موجودہ مہربانی سے پیش آئیں گے۔

دیگر:

کچھ پچھتر میں اماوش کے روز۔ ہڑتال۔ پنسل۔ سیاہ بھنورا کے دونوں پر اور دھتورے کے پھول ان سب کو ہموزن برابر لیکر کوفتہ کرکے اور چھان کر گولی بنائے بعد ازاں اس گولی کو گھس کر جو آدمی اپنی پیشانی پر تلک لگائے گا وہ عزیز خلائق ہوگا۔

دیگر:

کچھ یا شرون پچھتر میں اماوش کے روز سبز کلی دھتورے کی اور مور کی بیٹھ ان دونوں کو برابر وزن لے کر گولی بنائے۔ اس گولی کا دھواں جس شخص کو دیا جائے گا۔ وہ مہربانی اور محبت سے پیش آئے گا۔

دیگر:

کچھ پچھتر میں اماوش کے دن شکروار کو۔ کیسر۔ تگر۔ ہڑتال۔ ان سب کو ہم وزن برابر لیکر اپنی کنشٹکا انگلی یعنی خنصر انگلی کا خون ملا کر اس کا تلک جو کوئی آدمی اپنی پیشانی پر لگائے تو دیکھنے والے اس کی ساتھ محبت اور مہربانی سے پیش آئیں گے اگر کسی جماعت یا گروہ یا پنچائت وغیرہ میں کسی حاکم کے روبرو جائے تو عزت پائے۔

دیگر:

اگر کچھ پچھتر میں بھنورے سیاہ کے دونوں پر اور جانور طوطے کا گوشت اور اپنے کان کا میل اور اپنی کنشٹکا یعنی خنصر انگلی کا خون ملا کر گولیاں بقدر مسور بنا کر اپنی پاس رکھیں کچھ پچھتر میں شکروار کے دن جس عورت کو ایک گولی کھلا دے یا گھس کر اس کے بدن کو لگا دے تو وہ مہربانی اور کمال محبت سے پیش آئے گی۔

www.freeamliyaatbookspot.com
عملیات
FREE AMLIYAAT BOOK'S

سرفراز شاہ ووچ مانچسٹر

دیگر:

یکہ پچھتر میں بلکہ تہ۔ مجیٹھ کے درخت کی جڑ اکھاڑ کر اسکا سفوف بنائے۔ وہ سفوف جس کے بدن پر ڈالے وہ شخص اس کو عزیز جانے گا۔

دیگر:

بھنگرہ سیاہ و سفید کی جڑ اور درخت لاجونتی کے پتے اور درخت شہدیوی کا پھول لیکر اور ان سب کو پیس کر پیشانی پر تلک لگادے تو ہر دلعزیز ہوگا۔

دیگر:

اگر کوئی یکہ پچھتر میں جانور ہدہد کا سر خشک کر کے پھر اس کو پیس کر اپنی چہرہ پر ملے گا تو اس کے دیکھنے والے مہربانی سے پیش آئیں گے۔

دیگر:

جو آدمی جمعہ کے روز یکہ پچھتر میں جانور کو ذبح کر کے اس کے سر کا تاج اپنے پاس رکھے تو ہر دلعزیز ہوئے۔

دیگر:

اگر یکہ پچھتر میں جمعہ کے روز کبوتر کی داہنی آنکھ بطور تعویذ کے اپنے پاس رکھو تو وہ آدمی ہر دلعزیز ہوگا۔

دیگر:

اگر کوئی آدمی سنیچر کے روز اترا پھاگنی پچھتر میں سیاہ دھتورے کے پتے اور بیشاکھا پچھتر میں اس کی شاخ اور مولا پچھتر میں اس کی جڑ اور بھرنی پچھتر میں اس کا پھل اور یکہ پچھتر میں اس کے پھول ان پانچوں اشیاء کو لے کر کافور اور کیسر اور گوروچن میں ملا کر خوب حل کرے اور گولیاں بنائیے پس جو آدمی اس گولی کو گھس کر اپنی پیشانی پر لگائے تو ہر دلعزیز ہوگا۔

[illegible] فراز شاہ وچ مانچسٹر

……☆……

فری عملیات بکس
FREE AMLIYAAT BOOKS

فری عملیات

برائے محبت

بکھ پنچھتر میں بروز بار یا اتوار بھیڑ کا خون لے کر اس میں مدار یعنی آک کی جڑ پیس کر خوب ملا لیں پھر پورن ماشی کے روز اس خون میں روئی کی بتی کو بھگو کر چراغ جدید میں تیل ڈال کر روشن کرے اور اس کی سیاہی لیکر کاجل بنائے اس کاجل کو جو شخص اپنی آنکھ میں لگائے گا۔ تمام مرد وزن اس کی طرف دیکھتے ہی محبت سے پیش آئیں گے۔

بیوے سرفراز شاہ وچ مانچسٹر

دیگر:

بکھ پنچھتر میں بروز اماوس اگر برگ زنجبیل و برگ ہلیلہ سیاہ اور پوست درخت

نارجیل کوٹ اور چھان کر مطلوب کو کھلائے تو طالب کی محبت میں مبتلا ہو جائے عامل ہوشیاری سے پابندی وقت پر کام کرے۔

دیگر:

اگر یکم پنجشنبہ میں تالیس، کتھہ، ہنگڑ، ان ہر سہ اشیاء کو ہم وزن لے کر کوفتہ کر کے خوب باریک سفوف بنائیں پھر اس کو روئی میں لپیٹ کر بتی بنائیں اور بوقت نصف شب کے مٹی کے چراغ جدید میں تیل ڈال کر روشن کرے اور اس کی سیاہی لے کر کاجل بنائے پس جو شخص اس کاجل کو آنکھ میں لگائے گا دیکھنے والے کمال محبت سے پیش آئے گا۔

دیگر:

شرف آفتاب میں سیاہ بھنورے کے دونوں پیر اور پھوکر مول اور ہنگرا اور کاکڑ چنکان ان سب کو ملا کر اور کوٹ چھان کر سفوف بنا کر رکھے اور یکم پنجشنبہ میں تھوڑا سا اس سفوف میں سے جس آدمی کے جسم پر ڈال دے وہ محبت سے پیش آئے گا۔

دیگر:

بکا کڑ سنگی۔ وچ۔ ایلوا۔ الائچی خورد۔ ان سب کو ہم وزن لے کر اور خوب باریک کوٹ کر اس کا دھوپ بنائے جو شخص اس دھوپ کی دھونی یکم پنجشنبہ میں اپنے لباس کو دیکر پہنے تو جہاں وہ جائے سب آدمی اس سے محبت کریں۔

دیگر:

اگر یکم پنجشنبہ میں گفتار کی زبان لیکر اس کا تعویذ بنائے اور اپنے بازوئے راست پر باندھے تو اس سے سب لوگ محبت کریں گے اور دشمن مغلوب رہیں گے۔

دیگر:

اگر یکم پنجشنبہ میں گفتار کی چربی ابرو پر لگائے اور جہاں جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے محبت اور مہربانی سے پیش آئیں گے۔

نوٹ: گفتار۔ یہ جانور چرند ہے اور مشابہ کتے کے ہوتا ہے اور قبروں سے مردے بھی اکھاڑ

کر کھاتا ہے اور امریکہ و افریقہ کے ملک میں پیدا ہوتا ہے۔

دیگر:

اگر یکہ پچھتر میں بروز جمعہ یا پیر کے دن جانور لنگور کی کسی عضو کی ہڈی کو اپنے پاس رکھے تو ہمیشہ سب آدمی اس سے محبت کرینگے۔

دیگر:

اگر اماوش و یکہ پچھتر جمعہ کے دن ہو تو اسوقت جو کوئی اپنے بدن کا خون اور میل اور پسینہ تخم الائچی خورد کے اوپر مل کر جس کو کھلائے گا وہ محبت میں بے قرار ہو جائے گا۔

☆

فری عملیات بکس
FREE AMLIYAAT BOOK'S

خوش جیوے سرفراز شاہ وچ مانچسٹر

در بیان جنتر و دیا

گنجینہ طلسم نمبر: 7

برائے محبت:

اگر بروز شکروار یعنی جمعہ کے روز کرنکا نچھتر میں صبح کے وقت سفید کاغذ پر گول دائرہ بشکل سورج بنا کر اس کے اندر مطلوب کا نام لکھے اور اس د. حہ۔ گرد یہ حروف (ح ل ت ح غ) لکھ کر اس کاغذ کو کسی درخت سے باندھ دے مطلوب طالب کی محبت میں بے قرار اور دیوانہ ہوگا۔

دیگر:

اگر اس نقش کو لکھ کر اور دھو کر ایک ہفتہ برابر جس کو پلائے تو وہ محبت زیادہ کرے۔

اور مہربان ہو جائے۔ نقش معظم و مکرم یہ ہے۔



دیگر:



اگر بروز شکروار اور ریوتی نچھتر میں صبح کے وقت ایک تختی مسی مربع لیکر اس پر ایک فرضی تصویر اس طرح بنائے کہ ایک عورت تخت پر سوئی ہوئی ہو۔ اس کے سرہانے ایک مرد

تلوار ہاتھ میں لئے کھڑا ہو عورت کے سینہ پر یہ حروف (ہ س ش ع غ) لکھ دے اور اس تلوار کی دھار پر (۲۳۶۵) یہ ہند سے لکھ کر اس تختی کو جبکہ قمر طلوع کرے اس وقت اس کے مقابل رکھ دے پھر قمر کے غروب ہونے پر اس تختی کو اٹھا کر محفوظ کرلے اور اس طرح تین روز برابر کرے بعد ازاں اس تختی کو پتر بس پتھر میں آگ میں دفن کر دے۔ اور ہر روز بوقت صبح و شام نرم آگ جس سے اس تختی کو گرمی پہنچے جلاتا رہے۔ پس مطلوب اپنے طالب کی محبت

میں دیوانہ ہو کر اپنے طالب
کا خود ہی طلبگار ہو جائے گا

دیگر:

فری عملیات بکس
FREE AMLIYAAT BOOKS



اگر بروز جمعہ ست بکھا پتھر میں ایک سفید نگین بلور پر ایک زاغ کی تصویر بنائے اور اس کی چونچ پر (۲۴) ہندسے لکھے اور اس کے پاؤں کے نیچے یہ کلمہ (م م و ل ف) لکھ دے اگر نگین پر تیار نہ ہو سکے تو کاغذ پر سیاہی سے اس عمل کو تیار کر کے انگوٹھی میں زیر نگین

رکھے پر تاثیر ہوگا۔ جس کے پاس یہ انگشتری ہوگی اس سے عورتیں بہت محبت کریں گی۔

دیگر:



FREE AMLIYAT BOOK'S
شش جسو سہ سحر بحیر نشاہ وچ مانچسٹر

اگر بروز شکروار پور با بہادر پد پنجتر میں صبح کے وقت ایک سفید کاغذ پر مطلوب کی تصویر بنائے اور بوقت عمل لوبان اور عطر وغیرہ کا بخور دے اور گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اس تصویر کے گرد یک صد حروف (ق) لکھ دے اور پھر اس فرضی تصویر کے سینہ پر نام طالب کا لکھ کر کاغذ کو پنجتر میں بوقت صبح اس کاغذ کو جنگل میں کسی درخت سے باندھ دے تا کہ وہ ہوا سے ہلتا رہے تو مطلوب طالب کی محبت میں خود بیقرار و بے آرام ہو جائے گا۔

دیگر:

اگر اس نقش کو چاندی کی انگوٹھی پر جمعہ کے روز نیک ساعت میں کندہ کر کے وہ انگوٹھی اس وقت دست راست میں پہنے تو ترقی رزق کیلئے نہایت مفید ہے۔ نقش یہ ہے:



دیگر:

اگر جمعہ کے دن اترا بہادر پد پنجتر میں بوقت شب ۱۲ بجے سنگ یشب کی تختی پر اپنے اور اپنی ماں کے نام کے عدد ملا کر انہیں ایک ہزار ایک سو (۱۱۰۰) اور اضافہ کرے اس کے بعد ان اعداد کے با قاعدہ ابجد حروف بنائے۔ پھر ان حروف کو چاندی پر کندہ کرا کر اپنے داہنے ہاتھ کے بازو پر باندھے تو انشاءاللہ تعالیٰ کشائش رزق کمال ہو۔

دیگر:

اگر جمعرات کے روز کرکا پنجتر میں پورنماشی کو بساعت عطارد اپنے اور اپنی ماں کے نام کے عدد نکال کر انہیں بہتر (۷۲) عدد اور اضافہ کرلے بعد ازاں ان میں سے تیس ۳۰ عدد